



The Absolute Reality

www.quran4u.com



فَاِنَّمَا يَسَّرْنَا^{هُ} بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



ہم نے اس (قرآن) کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں

Quran With Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

الدُّخَانِ

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حم (1)

حم

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2)

اس کتاب روشن کی قسم

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ

ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا

إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3)

ہم تو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں

فِيهَا يُفَرِّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)

اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کئے جاتے ہیں

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا

(یعنی) ہمارے ہاں سے حکم ہو کر

إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5)

بیشک ہم ہی (پیغمبر کو) بھیجتے ہیں

رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ

(یہ) تمہارے پروردگار کی رحمت ہے

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6)

وہ تو سننے والا جاننے والا ہے

رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

جو کہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے

إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7)

بشرطیکہ کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

اسکے سوا کوئی معبود نہیں (وہی) جلاتا ہے اور (وہی) مارتا ہے

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ (8)

(وہی) تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا پروردگار ہے

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9)

لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں

فَأَمَّا تَقِيبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ (10)

تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا

يَعُشَى النَّاسُ^ط

جو لوگوں پر چھا جائے گا

هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11)

یہ درد دینے والا عذاب ہے

رَبَّنَا اكشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12)

اے ہمارے پروردگار! ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں

أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ (13)

(اس وقت) ان کو نصیحت کہاں مفید ہو گی جبکہ ان

کے پاس پیغمبر آچکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں

ثُمَّ تَوَلَّوْا عُنُقَهُ وَقَالُوا مَا عَلَّمَنَا جَحْشُونَ (14)

پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے (یہ تو) پڑھایا ہوا (اور) دیوانہ ہے

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا^ج

ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں

إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15)

(مگر) تم پھر کفر کرنے لگتے ہو

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ (16)

جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بیشک انتقام لے کر چھوڑیں گے

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17)

اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ^{صل}

(جنہوں نے) یہ (کہا) کہ خدا کے بندوں (یعنی بنی اسرائیل) کو میرے حوالے کر دو

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18)

میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ^{صل}

اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو

إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (19)

میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں

وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20)

اور اس (بات) سے کہ تم مجھے سنگسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں

وَإِنْ لَمْ تُوْمِنُوا لِي فَاَعْتَمِرُوا لَوْ نِ (21)

اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِ يَحْمِلْهُ وَأَلَّا تَحْمِلَ قَوْمَهُ فُحْرًا هَٰئِلًا (22)

تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں

فَأَسْرِبْ بَعْدَ دِيَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّذْتَبِعُونَ (23)

(خدا نے فرمایا کہ) میرے بندوں کو راتوں رات لے
کر چلے جاؤ اور (فرعون) ضرور تمہارا تعاقب کریں گے

وَإِنَّكَ الْبَحْرَ رَهْوًا^ط

اور دریا سے (کہ) خشک (ہو رہا ہوگا) پار ہو جاؤ

إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّعْرِقُونَ (24)

(تمہارے بعد) ان کا لشکر ڈبو دیا جائے گا

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْوُنٍ (25)

وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے

وَرُحُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26)

اور کھیتیاں اور نفیس مکان

وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27)

اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے

كَذٰلِكَ^ط

اسی طرح (ہوا)

وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخِرِينَ (28)

اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (29)

پھر ان پر نہ تو آسمان کو اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی

وَلَقَدْ بَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی

مِنْ فِرْعَوْنَ

(یعنی) فرعون سے

إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31)

بیشک وہ سرکش (اور) حد سے نکلا ہوا تھا

وَلَقَدْ اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ (32)

اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا

وَأَتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ (33)

اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34)

یہ لوگ یہ کہتے ہیں

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ (35)

کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ (یعنی ایک بار) مرنا ہے اور (پھر) اٹھنا نہیں

فَأْتُوا آبَاءًا بَيْنًا إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36)

پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو (زندہ کر) لاؤ

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَعِّعُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ج

بھلایا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں

أَهْلَكُنَاهُمْ

ہم نے ان (سب) کو ہلاک کر دیا

إِنَّهُمْ كَالَّذِينَ الْأَجْرِمِينَ (37)

بیشک وہ گنہگار تھے

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآعِبِينَ (38)

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا

مَا خَلَقْنَا هُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39)

ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40)

کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب (کے اٹھنے) کا وقت ہے

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (41)

جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ^ج

مگر جس پر خدا مہربانی کرے

إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42)

وہ تو غالب اور مہربان ہے

إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقُومِ (43)

بلاشبہ تھوہر کا درخت

طَعَامُ الْأَثِيمِ (44)

گنہگار کا کھانا ہے

كَأَمْهَلٍ يُغْلِي فِي الْبُطُونِ (45)

جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں (اس طرح) کھولے گا

كَغَلِي الْحَمِيمِ (46)

جس طرح گرم پانی کھولتا ہے

خُذْ وَهْ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47)

(حکم دیا جائے گا کہ) اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ

ثُمَّ صَبُّوا نُوقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48)

پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو (کہ عذاب پر) عذاب (ہو)

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49)

(اب) مزہ چکھ تو بڑی عزت والا (اور) سردار ہے

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50)

یہ وہی (دوزخ) ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51)

بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52)

(یعنی) باغوں اور چشموں میں

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53)

حریر کا باریک اور دیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے

كَذَلِكَ

(وہاں) اس طرح (کا حال ہوگا)

وَزَوْجَاتُهُمْ جُجُورٍ عِينٍ (54)

اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55)

وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے (اور کھائیں گے)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ

(اور) پہلی دفعہ مرنے کے سوا (کہ مر چکے تھے) موت کا مزہ انہیں چکھیں گے

وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56)

اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچالے گا

ج

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ

یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57)

یہی تو بڑی کامیابی ہے

فَأَيُّ مَا يَسِّرُنَا كَلِمَاتُ لِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58)

ہم نے اس (قرآن) کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں

فَأَمَّا تَقِيبُ إِيَّاهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59)

پس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں



© Copy Rights:
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com